

NAYLUL AWTAAR (1)

Bismilaahi Rahmaani Rahiim.

« Li Sëriñ Alhaaji Mbàkke Xaadimul Xadiim jëlle ca Naytul Awtaar, moom lanu àndi fii ngir ni manula dawal mbidum araab ak bu wolof bunu ko bindee ci arafi araab ñu mën cee jariñu. Noo ngi sàkkuwaat seen i ñaan bu baax, banu man a àggale sunu mbebet, te mooy yaatal mbindam ci bépp anam bunu yaakaar ne jekku neen ko ».

Ab leeral bu gaat

Saa suma bindee "x" jànggee ko "kh", "S" itam danaa ci jublu "S" bi nga xam, waaye danaa ci jublu "Z" itam li ko waral mooy loye gii daa amut ci wolof. Su fekke itam miin nga ñaan yi ma fiy bëgg a jottali da nga seetlu ne saa su ma tàmbalee aw baat ak coowaan bii : "S" da nga xam ne li ci èpp "Z" nga ko war a jànggee niki "Sunuuba" = zunuuba". Baatub "ch" itam mel na ne amul ci wolof ba tax na "S" itam lanu koy bindee. Waaye danaa ñaan ngànt ci bindee ko nii "sh" ngir am na ci ay ñaan yoo xam ne yaakaar naa ni suma ko deful noonu mën naa waral ñu bari juum ci jàngin wi. Foo gisee ma def "éé" ci ab baat xamal ni jàngin wi daa war a gën a diis. "E" fumu jeexale ab baat jànggee ko "ê", "C" itam ci baat, "tch" lay tegtale. Ba tay foo gisee ma def lu mel ne 7i yoon, tuddee ko nii "juróom ñaari yoon". Su feke nag bëgg nga ràññee mbidum wolof man nga bindu fii www.jangwolof.com.

Da nga seetlu ne, lëpp lu ma bind ci njariñ yi danaa la àndil ab nataal boo xam ne baati araab yi ñoo ci ne. Kon xanaa di sant ak a ñaanal Seex Bàmba Saar mi def nataal yi banu mën koo dugal fii.

Su ko defe yaw mi nga xam ne da nga bindu ci www.al-habdul-xadiim.com dees nala yoone sunu ligéey bi insàllaa. Noo ngi lay wax itam nga xaarandiñu ci dal bii di www.garabouktouba.net yal nanu ci Yàlla yóbbu ak jàmm, nun ak ni nu ko war a àndal ñépp.

Ndegam dundu gi daa xat nakk war na ku ne muy farlu kéem kattanam ci ndigal yi, tay teet tere yi lumu man, tay tuub lumu man. Lumu dégg ñu ne ku koy def ñu jéegal la mu koy def. Lumu dégg ñu ne ku koy wax ñu jéegal la mu koy wax. Lii nag maa ko àndi fii yookee ko Téere bi (Miftaaxul Xuyoob) ngir bëgg rekk képp ku bëgg jariñu man cee jariñu. Li ci ëpp mi ngi ci Téereb Sériñ Suwaaybu bi ñuy wax « Naylul Awtaar fii maa tukaffiru bihi sunuubul awsaar ». Yal na Yàlla yokk i leeram te jéegal ñu ci barkeem.

1- Ku wax "Subhaana laahi wa bi hamdidi, subhaana laahil hasiima lasii laa ilaa ha ilaa huwal hayul xayuumu wa atuuba ilayhi) **100i yoon** ginnaaw jullig àjjuma laata muy jóge fa mu doon jullee sunu Boroom dana ko jéegal **100.000i baakaar**, jéegal ñaari wayjuram **24.000i baakaar**.

كَوْنُونْ سَبَّحَرَ اللَّهَ وَسَمْنَهَلَةَ سَبَّحَرَ
اللَّهُو الْعَزِيزِيْمَ اَسْتَسْبَحُرَ اللَّهَ الْعَزِيزِيْمَ الْوَيْ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْفَعِيْمُ وَأَتُوَبُ إِلَيْهِ
تَسْبِيرِ يَوْنِي شَكَانْ جَلْنَجَنْ أَجَمَ لَانْ مَنْيَ
جَنْجَنْ بَقْمَنْهَوْنَ جَلْنَجَنْ سَبَّرُوْمَ نَكْجَنْ
تَسْبِيرِ جَنْجَنْ بَكَارَنْ جَنْكَنْ جَارَوْنِجَرَمْ
بَكَارَنْ جَنْجَنْ بَكَارَنْ جَنْجَنْ

2- Ku wax "Subhaana laahi wal hamdulilaahi wa laa ilaaha ila laahu wallaahu akbaru wa laa xawla wa laa xuwata ilaa bilaahil haliyil hasiim hadada maa halima laahu wa mil a maa halima laahu wa sinata maa halima laahu wa dawaama mulki laahi wa misla maa halima laahu" **1 yoon** sunu Boroom dana la bind nga bokk ci ñuy tuddu Yàlla lu bari. Defal la itam ngay ki gën ci niy tuddu Yàlla ci guddi ak ci bëcëg. Te sa baakaar yëpp day rot ni xobbi garab di rote, te Yàlla dana la xool, te du la mbugal, te àdduna dana dem ba jeex ak ñoñam te sa tuyaabaa du jeex.

كَوْنُونْ سَبِّحَ اللَّهُ وَالْعَنْدَ اللَّهِ وَلَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حُوَّا وَلَا
 قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ مَنْ يَحْكُمُ مَا
 يَعْلَمُ اللَّهُ وَمَلَأَ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَزَانَهُ
 مَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَعَوَامَ مَلَكُ اللَّهِ وَشَرَّانَ مَلَكُ اللَّهِ

پىش بىعون سىبىروم مەتل يىنة سېرىچىنى
 تىخى يىل لېپىرىش بى جەل يىتىم تەرىخىر خەپىش
 تىخى يىل چەكتۈۋاتىك بېجەتى: تىس بېڭارىپە
 تۆئى رىت نەغىب تەرىپە ئەرتى: تىپىل ئەتلى
 قۇوى: تىخىل بېھلى: تىڭىز ئەندىجىم بېجەتى
 آتى بېجەتىم بىتس تېبايات ئەجەنلىغى:

- 3- Ku wax " Subhaana sil mulki wal malakuuti, subhaana sil hisati wal jabaruusi, subhaanal hayi lasii laa yamuutu subuuuhun xuduusun rabbul malaayikati warruuhi" **1 yoon** ci ab bis walla ci ayu bis gi walla ci weer walla ci am at walla ci ag dundam ñu jéegal ko baakaaram yu njëkk ak yu mujj ak lumu bari-bari, donte daa daw ci ab xare.

كَوْنُونْ سَبِّحَ الْمَلَكَ وَالْمَلَكُوتَ
 سَبِّحَ عَزَّتَهُ وَبَعْرَوْتَهُ سَبِّحَ الْعَنْدَ الْعَنْدَ
 لَا يَمْوَتْ سَبِّحَ فَهُوَ مَرْءَى الْمَلَائِكَةِ
 وَالرُّوحِ، بَنْ يَوْنَ حَبِّ بَنْ وَلَ حَاجَى
 بِنْسَىقَ وَلَ جَبُولْرَقَ وَلَ جَمَ آتَ وَلَ جَمَكَ
 لَمْ جَمَ، شَهَى آتَيْ - تَاءِ بَرْمَ يَقَى آتَيْ مَدَى

- 4- Ku wax "Subhaanaka laahuma wa bi hamdika laa ilaaha ilaa anta astaxfiruka wa atuubu ilayka", buy joge ci ab jotaay ñu jéegal ko la mu fa moy lépp.

كَوْنُونَعْ سِبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ
كَلَمَّا دَعَكَ إِذَا دَعَتْ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوَبُ إِلَيْكَ
بِئْ جَبَ جَبَ بِحَتَّانِي بِجَنَاحِكَ لَمْ فَهَ
مَهْتَ كُلُّ شَيْءٍ

- 5- Ku wax " Subhaana rabiyal hasiim" **3i yoon** ci ab rukoo sunu Borom goreel ko ci sawara.

كَوْنُونَعْ سِبْحَانَرَبِّي الْعَظِيمِ جَبَ
يُونَ جَبَ رَكْوَنَعْ سِبْرُومَ كَرِمَلَكَ
بِحَسَقَرَةٍ

- 6- Ku wax " Subhaana man tahas-sa bil xudrati wal baqaa-i wa xaharal hibaada bil mawti " 7i asamaan yépp ak 7i suuf ak li nekk ci ñoom danañu la jéegalul.


كَوْنَحْ سِبْحَرَ مَسْتَعْزِزَ بِالْفُخْرَةِ
 وَالْبَغَاءِ وَفَهْرَ الْعِبَادَةِ بِالْمَوْتِ، جَرْوِيْجَارِ
 اَسْمَانَ پِيْبَ آكَهْ جَرْوِيْجَارِ سَوْفَ آكَهْ لِبَكَهْ
 بِجَهْنَمَ كَهْ تَجْلِيْلَ جَهْنَمَ

- 7- Ku wax "Subhaanaka rabbii salamtu nafsii wa hamiltu suu-an faxfirlii fa innahu laa yaxfiru sunuuba ilaa anta" ñu jéegal la sa baakaar yëpp ak lumu bari-bari.



كَوْنَحْ سِبْحَانَكَهْ رَبَّهْ هَلْمَتْ نَفِيسَهْ
 وَهَلْمَلتْ سَوَّهْ اَبْعَثْجَعْزِلَهْ بَلَانَهْ لَدِيْغَعْزِلَهْ
 الَّهُ نُوَمَّهِ إِلَّا أَنَّ، بِجَهْنَمَ كَلَسَكَارِيْبَهْ
 آكَهْ لَنَمَ بِرْجَرَهْ

- 8- Ku wax "Subhaana man huwa muttalihun yahlamu jawaarihal xuluubi subhaana man yahsii hadada sunuubi subhaana man laa yaxfaa haleyhi xaafiyatun fi samaawaati wa laa fil ardi subhaana laahi ra-uafil waduudi"

1 **yoon**, sunu boroom bindal ko junni-junni yiwi. Faral ko junni-junni ñaawteef yékkatil ko junni-junni daraja.




9- Ku wax "Allaahuma maxfiratuka aw sahu min sunuubi wa rahmatuka arjaa indii min hamalii", ñu jéegal ko baakaaram yépp.



10- Ku wax "Allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta xalaqtanii wa anaa hala hahdika wawahdika mastatahtu ahuusu bika min shari maa sanahtu abuu-u laka bi nihmatika halayya wa abuu-u bi sanbii faxfirlii fa

innahu laa yaxfiru sunuuba ilaa anta” **1 yoon**, ci ag bëcëg ànd al koolute ak dëgal ci wax gi boo faatoo ci guddi gi àjjana nga jëm.



11- Ku wax "Allaahuma inniya astaxfiruka li maa tubtu ilayka minhu summa hudtu fiihi wa astaxfiruka li maa aradtu bihii wajhaka faxaa latanii fiihi xayruka wa astaxfiruka linnihami latii anhamta biha halayya fataqawaytu biha halaa mahaasiika wa astaxfirulaahal hasiima lasii laa ilaaha ilaa huwal hayul xayuumu haalimul xaybi wa shahaadati rahmaana rahiima likulli sanibin asnabatuhu wa likuli mahsiyatin irtakabtuha wa likuli sanbin ataytu bihi wa ahaata bihi hilmu laahi tabaaraka wa tahaala'', nu jéegal la say baakaar yu njékk ak yu mujj.

كَوْنَعَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَبَثَّ
 إِلَيْكَ مِنْهُ وَمِنْهُ ثُمَّ تَجْعَلُهُ وَأَسْتَغْفِرُكَ
 لِمَا أَرَدْتُ بِهِ وَجَهْتُ بِهِ الْحَلَقَةَ وَجَاهَهُ
 شَجَرَةَ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْمَلَتْ أَعْمَلَتَ
 بِهَا حَلَقَةً جَعْلَقَةً يَتَ بِهَا حَلَقَةً مَحَاصِبَهُ
 وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ النَّحْيَ لِلْأَلْهَةِ
 إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَظِيمُ حَلَقَةُ الْعَيْنِ وَالشَّهْوَةُ
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ بِهِتَّيْدِي
 وَلِكُلِّ مَعْصِيَتِي ارْتَكَبْتَهَا وَلِكُلِّ أَئْمَانِي
 أَتَيْتَ بِهَا وَأَحَادِيدِي حَلَمَ اللَّهُ تَبارَكَ
 وَتَعَالَى بِهِ جَهَنَّمَ سَبَّاكَ رَبِّيْعَةَ آنَّكَ بِيْمَيْرَيْهِ

- 12- Ku wax lii baakaar du ko lor " Allaahuma inniya ahuusu bika min hasaa bika yawma tabhasu hibaadaka wa ahuusu bika min haajilil hasaabi wa min suu-il hisaabi innaka la sariihul hixaabi wa innaka la xafuurun rahiimun rabbi innii salamtu nafsii sulman kasiiran faxfirlii wa tub halayya laa ilaaha ilaa anta subhaanaka innii kuntu mina saalimiina".

Allaahuma Inniya ngay jiital !

أَنْهُوْنِي بَكَ مِنْ كَنْدِيْكَ يَوْمَ تَبْعَثُ
كِبَاءَكَ وَأَنْهُوْنِي بَكَ مِنْ كَاجِلِ الْعَنَادِيْبِ
وَمِنْ شَوَّالِ الْعِسَابِ إِنَّكَ لَتَسْرِيْعُ الْعِفَلِيْبِ
وَإِنَّكَ لَغَيْبُورُ رَجِيمٍ رَّوِاتَهُ الْمَلَكَتِ
نَفْسِيْنِ مُلْكَمَا كَثِيرًا كِبَانْجِيْبِلِيْ وَتَبَّعَهُ عَلَمَتِ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّكَ لَسْبَحَنَتَهُ إِنَّكَ كَنْتَ
مِنَ الْكَلِمَيْرَنِ

- 13- Ku jäng " Xul huwa laahu ahadun..." bis bu set sunu boroom faral ko baakaari 70i at.
- 14- Ku jäng " Xul huwa laahu ahadun..." ginnaaw jullig suba **10i yoon** baakaar du ko yég ca bis ba.
- 15- Ku saxal "Aayaatul Kursiyi" ginnaaw jullli gu ne faatu moo ko tere tàbbi àjwana.

- 16- Ku jàng "Aayaatul kursiyi" 3i yoon malaaka yëpp jéegalul la.
- 17- Ku jàng Aayaatul Kursiyi " 10i yoon sunu Boroom dana la xool te du la mbugal mukk.

Mën nga leerlu tombug 13 ba tombu 17 ci ñaari nataal yi boo ko de soxla ci araab.

جَنَّةَ قُلْهُو اللَّهُ أَحَدٌ، بِسْرَبُعْتَ
 سُبْرُومْ بُرْكَ بَخَارِجَرْ وَمَجَارِقَهُ أَنْ
 جَنَّةَ قُلْهُو اللَّهُ أَحَدٌ، مَنَاوْجَلَكْ
 كَبَيْهَ بُوكَ يُونَ بَكَازِرَكَ يَلْكَ جَبَبَهَ
 كَسَعْلَ عَائِدَةَ الْكَرِسْمَ، مَنَاوْ

جَلَ كَرَبَاتُو كَتَرَتَ بَتَأَجَرَ
 جَنَّةَ عَائِدَةَ الْكَرِسْمَ، بَجَتِيَّوْزَ مَلَادَ
 يَبَبَ جَكَلَلَدَهَ
 جَنَّةَ عَائِدَةَ الْكَرِسْمَ، جَعَيْهَ يُونَ
 سُبْرُومْ حَمَلَ قُولَ تَهَلَ كَخَارِمَكَهَ

- 18- Ku jàng " Bismilaahi Rahmaani Rahiim" sunu Boroom bindal la ci araf wu ne, 4.000i yiwi. Faral la 4.000i ñaawtéef, yékkatil la 4.000i daraja.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِرُوْفِ يَنْهَى لَلْجَهْ حَرْفَ وَيْنَ بَعْتَ جَهْنَمْ
بِيْوَهْ بَعْرَلَ بَعْتَ جَهْنَمْ جَاهَوْ تَلْهَهْ
بَعْتَلَا بَعْتَ جَهْنَمْ حَرْجَهْ

- 19- Ku wax "Bismilaahi Rahmaani Rahiim' tàbbi àjjana. Ku jàng faatiha **1** yoon sunu Boroom araamal yaramam ci sawara.

كَوْمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّأْجَهْ
بِجَهْنَمْ بَاتَّعْمِيْهِ بَنْ يَوْنَ لَسْبِرُومْ حَرَامَلْ
بَرَّمَمْ بَسْقَرَهْ

- 20- Ku sol mbubu mu yees wax "Alhamdulilaahi lasii kasaanii maa uwaarii bihi hawratii wa atajamalu bihi fii hayaatii min xayri hawlin minii walaa xuwatin, allahuma inniya as-aluka xayrahu wa xayra maa suniha lahu ñu jéegal ko baakaaram yu njëkk ak yu mujj.

كَسْلٌ بِئْبَيْ مُبَشِّرٌ وَنُوحٌ أَنْتَمْنَاهُ اللَّهُ
الَّذِي كَسَابَنِي مَا لَأَطْلَرُ بِهِ حَفْرَتِي وَأَنْجَمْلَ
بِهِ حَيَاةٍ مِنْ كَثِيرٍ حَوْلِي قَيْثٍ وَكَدْغَوْلٍ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صَنَعَ لِي
بِحَمْكَلْتَهُ بِكَارَمْ بِعَنْهُ آتَيْتَهُ

Su ko defe danuy taxawlu fii ba beneen yoon insàllaa nu àndi yeneen **20i** tomb.
Amaana dees na ko def ñenti xaaj. Te leen waralu ko ludul xat-xati jamono.
Danuy fàttali ne, Naylul Awtaar Téere bu mag la boo xam ne Sëriñ Suwaahibu
moom Seexul Xadiim moo ko bind. Ginnaaw ba Sëriñ Alhaaji Mbàkke leerale ci
waati wolof Téere bii di Miftaaxul Xuyoob mu Sëriñ Tuubaa Xaada lahu laahu
Maxtaara lahu, ci la toftal njariñ yu am solo yi nekk ci *Naylul Awtar* ngir bëgg
ñépp jote ci.

Wasalaamu Haleykum Wa Rahmatulaah !

Al-Habdul Xadiim
Grenoble, 11/04/2020.